



نبی کریم ﷺ فجر ﷻ و ﷻ کے بعد دو ﷻ لکی رکعتیں (سنت فجر) پڑھتے

أمّ المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فجر ﷻ کے بعد دو ﷻ لکی رکعتیں (سنت فجر) پڑھتے۔ ایک روایت میں ہے الفاظ میں ”قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ“ یعنی نماز کا اقامت ﷻ سے پہلے۔

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں أمّ المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی کیفیت بتا رہی ہیں کہ آپ دو رکعات پڑھتے تھے، یہ فجر کی دو رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے صحیح مسلم میں حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب فجر طلوع ہوتی تو آپ ﷺ مختصر سی دو رکعات پڑھتے تھے حدیث میں جو ”حَفِيفَتَيْنِ“ فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ قیام، رکوع اور سجود میں اختصار فرماتے، بہت زیادہ مختصر ﷻ کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا بخاری کی روایت میں فرماتی ہیں ”هل قرأ بأُمّ الكتاب؟“ کہ آپ نے فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں؟ مؤطاً کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ فجر کی دو رکعتیں لکی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ میں کہتی آپ فاتحہ پڑھتے ہیں بھی یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ نماز کے ارکان قیام، رکوع اور سجود میں خلل پڑتا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ باقی نفل عبادات جن کو طویل کرنے کی آپ کو عادت تھی ان کی بنسبت اسے مختصر پڑھتے تھے ”بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ“ یعنی طلوع فجر کے بعد ان دو رکعات کے پڑھنے میں جلدی کرتے تھے ”قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ“ یعنی فجر کی دو رکعت سنت پڑھنے کا وقت طلوع فجر سے لے کر فجر کی فرض نماز تک ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/11248>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

